

52. dij vrd. u hat sɛχ tɔ ho. ʔkɔ lɔ. ʔtɔ
a: fɛni. jɔ
53. kɪnɔ pap hatɔm ʔes jɔ. ʔk nɔ dɔ su. ʔlɔ. ʔtɔ
gɔ. ʔ
54. ɪχ hanɔm a: fɛru. ʔnɔ ʔu. ʔla: t lanstɔ
wa: tɔk tɔ gɔ. ʔ
55. ɪn dɪ stɪ. ʔk - of dɪs ge. ʔgɔnt ʔytmɔ
vɔ: l rɛgɔr
56. e. ʔdɔ pɔt sɛnt nɪt fɔ. ʔl we. ʔt
57. dɔr stɪtɔr stɪ. t be: dɔr o. ʔvɔ
58. ɪgɔnɔ me. ʔtɪ ɪstɔt nɔχ tɔ kɔ. dɪm tɔ
pɪs kɔ
59. dij ke. ʔtɔ χi. ʔt kɔ. ʔa le. χ - wa - of
wo. ʔt (- beleefer) - of nɪt
60. ɔt rɔkɔt pɛ. ʔdan dɔr stɔtɔ
61. ɪn de. ʔtɪt kɔ. m de. ʔr ke: ji. ʔkɔn
jɔ. ʔk nɔ dɔ ke. rɔmɔs
62. dɔr pa: tɔr ʔe. ʔtadɔ ʔɔ hɛr gɔt ful.
mag dɪs
63. du ʔo. ʔs mɪχ weɪ mɛ du ʔaχs mɪχ
nɪkɔ
64. dɔ su. ʔr bɔlɔ ʔalɔ gɔ. ʔu tɪr kɔ. ʔmɔ
65. ge. stɔ hɪj nɪt kɔ: tɔ
66. hɪntɔ ɔ. ʔe. ʔr hi. ʔs
67. kɪnɔ mo. tɔr ɛ: s kɔpɔt - ʔɪt fas - of
ʔlɪk tɔ.
68. ɔtɪχ mɔ ɪrɛrɔmɔ da: ʔɔwe. ʔ ɛn tɪχɔnɔ
ju. ʔnɔ ɔ. vɔnt
69. dat jɪŋkɪkɔ lɪbɔ. ʔtɔ blɪ. ʔtɔ vɔ. t
70. dɔ. ɛ: ʔnɔ bɔf ɪn dɔ han
71. ɪχ wo. ʔl bɔtɔ pɔχ mɔ bre. f brɔχ
72. ɪχ han pɪn a: nɔt hat
73. ɪχ kɪnɪt mɛ. t we. ʔ dɪr. vɔr ɪm gɔ. ʔ
74. nɔ. dɔr ɪŋɔrɔ spɔnɔ vɔrɔt pɛ. ʔrdɪn
dɔ nɛ. ʔ kɔr
75. ɪχ han χɛt fi. ʔbɔr al fan fy. ʔr dɔ mɪdɪχ
76. dɔr fɔ. ʔ fa dɔr hɪ. ʔnɪŋ ɪ. ʔo. ʔ sɔl dɔ. ʔt ʔɔwɛ
77. we. t tɔt ʔe: nɔ ɛsɔr wu. ʔnɔ - bɔ. ʔχ
78. dij ru. ʔkɔ hɪnt lan dɔ. ʔr
79. ɪχ bɛ. ʔf ʔe. ʔ wo. ʔ tɔr fan
80. ɔt ke: nɪt jɔ wo. ʔr du. ʔ dɪ. ʔr ʔɔ ɔt
kɔ. ʔtɔ dɔ. ʔr
81. ke. ʔ hat lo. ʔr o. ʔgɔ ɛn lo. ʔr u. ʔrɔ
82. ɔt me. ʔtɔ fan ɔr ɪs mɛ. t dɔ mɛŋɔkɔ
nɔgɔnɔ bɔf χɔgɔnɔ bɔ. ʔmɔlɔ pɛ. ʔkɔ
83. ɔtɪχ ɛ. ʔ jɔ. ʔro. ʔ du. tɔ lɛdɔr
84. ɔ bɔgɔtɔ bɔlɔ
85. dɔ lɪj ʔχ tɔ nɪgɔnɔ ɛs χɛld ɛn
kɪ: gɔ. m
86. kɪnɔ mo. ʔŋ ɪs tɪy. ʔχ fan dɔr du. ʔf
87. de. ʔ weχ bɔp se. ʔf - dadɪχ mɔ ɪm weχ
88. ɪχ kɔ. ʔl fy. ʔr dɔr kɛ. ʔŋɔ m kɛ. ʔŋ tɔ. m
89. dɔr bɔ. ʔ ɪs kɔpɔt χɔgɔnɔ - ʔha. ʔu
ɛ. ʔŋ ku. ʔf ɪgɔ. ʔlɪk
90. kɪ lɪtɔ wo. ʔr kɔ. t mar gɔ. ʔt
91. ɪn dɔr si. ʔm ɪstɔt ɔt bɛtɔtɔ
92. mɔ stɔtɔr mɔt ʔo. ʔt kɪnɔ mɪkɔ
93. ʔp. g mɪgɔn stɔr kɔ. ʔt
94. ɪχ we. ʔt nɪt wu. ʔ ɪχ mɔ. ʔt ʔp. kɔ
95. mɔ kɔ. ʔlɔ kɛldɔr ɪs ʔo. ʔt fy. ʔr ɔt be. ʔr
96. ɪχ mo. ʔ dɔ. ʔ bɔ. ʔ tɪrɪŋkɔ ɪm a: tɔ stɛr kɔ.
of be: kɛ. ʔtɔ tɔ kɔ. ʔmɔ
97. ɪχ mo. ʔ dɪ. ʔf ɔt fɔ. ʔ ɪn dɔ stɔ. ʔl ʔɔgɔ
98. mɪ bɔ. ʔr wo. ʔr mɔ. ʔj
99. dɔr mɛ. t lɔkɔs kɛndɔr mag ɛ. ʔŋ gɪu. ʔtɔ
rɪŋdɔ
100. dij bɔ. tɔr mɛ. t lɔg ɪχ dɪn ɛn ʔu. ʔr -
stɪkɔm dɔr mɛ. t bɪrɪk
101. vɔr ʔɔ. ʔu de. ʔ pɔdɪn ɛ. ʔŋ u. ʔr kɪnɔ
dɛ. ʔmɔ
102. ɔt fɪlt nɪgɔ ɔ. ʔrɔm tɔ ʔa: gɔ - pɪŋkɔ. ʔlɛχ
(van een persoon) - pɔr. ʔi. ʔs (van een werk).
103. ɔ kɪnt nu. ʔ dɔ ɛ. ʔŋ mɔnɪtɔ la: t
104. ɪn ɪtɔ: lɪj ʔi. ʔtɔ ɔt bɛ. rɔχtɛ fy. ʔr ʔpɔe. ʔjɔ

- 65. darafstə d. o. p tə dæ. θjə
- 66. In he.θ lə (= Heerlen) hrintsə θstəg
u. tə brək θəfə: rə
- 67. du mo.χ o. s fy.θ lə əns ko.θmə kikhə
- 68. θ ə. s fan lo. və θəko.θmə mē. l t θ
ly. θ fvl χē. l t
- 69. dij dy. θ r is fan b.θ. kə. ho. θ l χə. mək
- 70. ε. i. η gə. θ r. θ. w d s v r. θ. w mo. l t k i. n θ n i. θ. n θ
- 71. Iχ han he. i. χ rəs χə. χ i. θ n t m a. r θ t w o. θ r
χē. l n θ χ. θ. w θ r θ. o. θ t
- 72. dər bræ. θ jər he. θ t a. t θ t n θ χ t θ d y. r ε. l χ
l m t θ b. θ. w θ r
- 73. bā. k θ - Iχ b a. k - du b i. k s - he. θ b i. k -
b i. k t h. θ - θ b i. k θ - v i. θ r b ā. k θ - Iχ
b a. k θ t - du b a. k θ t s - he. θ b a. k θ t - v i. θ r
b a. k θ t s - v i. θ r h v n t χ ə. b a. k θ
- 74. bē. i. j θ - Iχ bē. i. j - du bē. i. t s - he. θ bē. i. t -
v i. θ r bē. i. j θ - bē. i. j θ v i. θ r - Iχ bē. i. j θ t -
Iχ han χə. b o. θ - bē. i. θ t θ θ i o. l χ
- 75. θ t i. χ θ k lē. l n t m a. r θ fē. i. n t
- 76. du k i. n s - θ m θ k i. n hē. i. j ε. i. θ r
k r i. g θ o. i. p θ n θ m a. i. t
- 77. θ h a. t χ ə. r a. χ t a. t θ a m i. χ s a. l d i. η k θ
- 78. d ə m a. i. t s a. χ t a. t θ rē. χ h a. i. w
- 79. θ t w o. θ r θ v i. f p r i. i. θ
- 80. o. η θ r d i e. k l i. g v ə. l e. k ə. l θ
- 81. θ t w a. t ə r k o. k χ ə. l i. k - θ t k ə. g d ā. l
- 82. θ t h e. θ j i s n θ χ r θ. n - θ d i. s p a. s χ ə. m i. θ n t
- 83. m a. j ə. n ε. s w e. θ l χ ə. m a. k mē. l t ə r d o. θ r
f a. n θ n ε. i. j

- 124. dat bomkə zal d. θ. θ lē χ k i. n θ w ā. s θ
- 125. dər pastu. θ r h a. t χ. θ. w θ w i. n
- 126. o. l. θ. t h u. θ s ε. l. χ. a. f χ ə. b r a. η k
- 127. d i mē. l ə k s p r i. t t s t u. t θ t ə d ə r f a. n d ə k o. θ. w
- 128. dər kə. θ t ə r l u. w t f y. θ r d ə k r a. t s p r o. s e. s i
- 129. d ə b. θ. m f a. n d ə s i. p h a. r - θ f s ə. r a. χ s k a. r
b. θ. g θ l i. χ f a. n d ə r l ā. s
- 130. d ə t w i. θ p r a. y. s θ k o. m θ n θ. b i. θ. t r
- 131. θ r h v n t ə m b o. η k e n b l a. i. w χ ə. k θ. w θ r
- 132. s. θ. i. s χ ē. l a. n - f l a. i. w
- 133. dər s n e. i. l i. g d i. k
- 134. Iχ han d i. g i. n χ ē. i. n i. w i. χ ē. i. t χ ə. l i. θ
- 135. he. θ lə (= Heerlen) w e. θ b n u ε. i. η g a. n θ r
n e. θ s t a. t
- 136. du. θ - Iχ d u. θ n θ t - du d e. s θ t - he. θ d e. t θ t -
v i. θ r d v n t θ t - i. θ r d o. t θ t - θ i d v n t θ t - Iχ
d o. χ θ t - du d o. χ θ t - he. θ d o. χ θ t - v i. θ r
d o. g n θ t - i. θ r d o. χ t θ t - θ i. d o. g n θ t -
d o. χ i. χ t a. t - d o. χ h e. θ t m a. r - d o. g θ r θ t m a. r
- 137. d. θ. p θ - d o. p k l e. t j θ - d o. p j θ e. θ - d ə s v l d θ. t θ
- 138. d r e. j θ - he. θ d r e. j θ - he. θ h a. t χ ə. d r o. j θ
- 139. bē. i. η θ - Iχ bē. i. η - du bē. i. η s - he. θ bē. i. η t -
v i. θ r bē. i. η θ - i. θ r bē. i. η t - θ i bē. i. η θ -
bē. i. η t h e. θ - b o. i. η h e. θ - Iχ h a. n χ ə. b ū. η θ
- 140. Locale Landmaten: b o. i. n d ə r (= 1/5
hectare) - θ i. l (= 1/4 b o. i. n d ə r) - θ n r o. θ. w
(= roede = 20.17 m²) - m θ v e. θ r h a. n t θ v o. θ t
(= een vierkante voet = 30 cm). m θ m ə r ə g θ (= θ n i. l)
- 141. Locale Waternamen: d ə s t r i. t h a. g ə r b a. i. k
(= Strijdhagerbeek) - d ə p a. l ə m i. g ə r b a. i. k (= Palenbergbeek).

De naam van deze gemeente in haar eigen dialect is: s̄a: s̄b̄e, r̄oχ; vroeger: se. t̄

De inwoners heten: m̄a se. t̄aR (van se. t̄ = scheiding).

Hun bijnaam is: gri. l̄eχ̄aR (= grijnslacher).

Tantal inwoners op 1 sept. 1947: 8766.

Gealtoestand. De voornaamste wijken zijn: d̄a St̄ Re. ^op (= de Streep) - I k̄ s̄ k̄ a
(= Eijkske).

Het dialect vertoont geen locale verschillen. Er wordt geen Frans en geen A.B.N. gesproken. De bevolking bestaat uit 70% mijnwerkers + 30% overigen.

Zegslieden: 1. J. J. Jongen; 63 j.; geb. te Heerde; leraar; heeft hier bijna altijd gewoond; V. van Schaesberg; M. van Heerde; spreekt buiten de schooluren dialect van Schaesberg.

2. A. W. Baas; 87 j.; geb. te Schaesberg; ambtenaar; heeft hier buiten zijn studietijd altijd gewoond; V. van Sijpeveld, M. van Schaesberg; spreekt bijna steeds dialect.